

کپڑوں کی دیکھ بھال اور رکھ رکھاؤ

عملی کام

مہارتیں

عنوان

سبق نمبر

داغ دھبے دور کرنے کی اہمیت اور طریقے

تجزیاتی اور تخلیقی سوچ۔ مسائل کا حل اور فیصلہ لینا

کپڑوں کی دیکھ بھال اور رکھ رکھاؤ

9

خلاصہ

کپڑے بیکٹر یا اورفنٹس کی افزائش کو روکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جسم جلد کی بیماریوں اور جلد کی دوسری خرابیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کپڑوں کی دیکھ بھال اور حفاظت سے کپڑے مضبوط رہتے ہیں اور زیادہ دنوں تک چلتے ہیں۔ کپڑوں کی اچھی دیکھ بھال اور رکھ رکھاؤ آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ جب کپڑے لینے جاتے ہیں تو وہ گرد، دھول، داغ، دھبوں اور چکنائی وغیرہ سے گندے ہو جاتے ہیں اور انہیں دھونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ کپڑوں کو پہننے کے بعد ہر بار دھونا ضروری نہیں ہوتا، پھر بھی تہہ کر کے رکھنے سے پہلے انہیں دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر جھاڑنا، برش کرنا یا ہوا لگانا ضروری ہوتا ہے۔

کپڑوں کی دیکھ بھال اور ان کے رکھ رکھاؤ کے لئے ان کی دھلائی سے پہلے درج ذیل اقدامات کرنا ضروری ہیں۔

- میلے کپڑوں کو جمع کرنا۔
- کپڑوں کی زندگی بڑھانے کے لئے ان کی مرمت کرنا۔
- کپڑوں کے رنگ، سائز، وزن، گندگی، استعمال اور بھگونے کے وقت کے اعتبار سے دھلائی سے پہلے انہیں الگ الگ چھانٹ لینا چاہیے۔
- کپڑوں پر لگے ہوئے لیبل پر لکھی ہوئی ہدایات کو پڑھنا اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔
- داغ دھبوں کو پہلے ہی صاف کر دینا چاہیے اور دھبوں کے صاف ہو جانے کے بعد کپڑوں کو اچھی طرح پانی سے دھو لینا چاہیے۔
- دھبہ کسی کپڑے کے بدرنگ ہونے کا نشان ہے جو کسی دیگر شے کے ساتھ رابطے میں آنے کے سبب ہو جاتا ہے۔ دھبہ دور کرتے وقت درج ذیل احتیاط انجام دینی چاہئے۔

- دھبہ تازہ لگا تبھی دور کرنا چاہئے ورنہ یہ کپڑے میں گہرائی سے لگ جائیگا۔
- نازک اور رنگین کپڑوں کے لیے پہلے جوڈ کے اندرونی کناروں میں کیمکل جانچ کر لیں اور دیکھیں کہ کہیں نقصان تو نہیں ہو رہا ہے۔
- معتدل یا ہلکاری ریجنٹ کا استعمال کریں۔
- دھبے کو ہٹانے کے بعد پوری طرح کھنگال لیں۔

اہم باتیں جاننے کے لیے

داغ دھبوں کی زمرہ بندی اور دھبوں کو دور کرنے کے طریقے

دھبوں کا زمرہ	دھبے	سفید سوتی کپڑوں کے دھبے دور کرنے کے طریقے
سبزیاں	چائے کافی، پھل مہندی	گرم پانی، بوریکس گنگنے پانی میں بھگوننا
حیواناتی دھبے	خون، دودھ، انڈا	ٹھنڈا پانی، صابن
چکنائی	تیل، گھی مکھن، شوربہ جو توتوں کی پالش، پیٹ، لپ اسٹک	گرم پانی، صابن، دھوپ میں گھاس پر سکھانا، کھر چنا، اسپرٹ سے اسٹیج ہٹی کا تیل، تار پین کا تیل
دھات کے دھبے	زنگ	لیمو کارس، نمک
متفرق	گھاس، روشنائی پان	پانی، صابن پیاز کا پیسٹ، دھوپ میں ڈالنا

اہم نکات

خاص قسم کے کپڑوں کی دھلائی

اقدام	سفید سوتی کپڑا	رنگین سوتی کپڑا	سنتھیک کپڑا	ریشم کا کپڑا	اونی کپڑا
بھگوننا	گرم پانی میں 1/2 گھنٹہ	نہیں	نہیں	نہیں	نہیں، کاغذ پر کپڑوں کی آؤٹ لائن بنائیں
دھونا	کوئی بھی صابن مٹی لگانا، نچوڑنا	ہلکا صابن	ٹھنڈا پانی، اچھا صابن، رگرٹنا	گنگنا پانی، اچھا صابن ہلکے ہاتھ سے رگرٹنا	اچھا صابن، مٹی لگانا اور نچوڑنا
پانی نکالنا	دھلائی کے بعد نیل لگانا	نیل کی ضرورت نہیں	نچوڑنے کی ضرورت نہیں	ٹھنڈا پانی	گرم پانی
کلف لگانا	بالکل آخر میں	بالکل آخر میں	ضرورت نہیں	کلف	عمل پورا نہیں ہوا
سکھانا	دھوپ میں	سائے میں	ہینگر پر	سائے میں	آؤٹ لائن میں فٹ کر کے
پرپیس کرنا	گرم پرپیس	گرم پرپیس	ہلکا گرم پرپیس	ہلکا گرم پرپیس	اسٹیم آئرن

کیا آپ جانتے ہیں؟

مختلف قسم کے کپڑوں کو ان کی بناوٹ کے کمپوزیشن اور حساسیت کے لحاظ سے مختلف درجہ حرارت پر پرپس کرتے ہیں۔ اونی اور سنٹیٹک کپڑوں کو 15C، سوتی اور ریان (Rayan) کو 180C، سوتی اور لینن کو بہت گرم یعنی 200C درجہ حرارت پر پرپس کیا جاتا ہے۔

اپنی معلومات اضافہ کیجیے

ریمانے غلطی سے اپنے سفید اسکول یونیفارم پر روشنائی گرائی ہے۔ اس دھبے کو پہنچانے اور ریمانے کو یہ دھبہ دور کرنے کی تکنیک بتائیے۔

اپنے نمبر بڑھائیے

- کچھ لیبلز کو پڑھیے اور جانچئے۔
- داغ دھبوں کو دور کرنے کی ٹیکنک کو سمجھنے کے لئے گھر پر کچھ دھبوں کو صاف کیجئے۔

اپنی سوچ بوجھ بڑھائیں

دھلائی کے طریقے

1. رگڑنا
 - ہاتھ سے رگڑنا: کپڑوں کے چھوٹے اور زیادہ میلے حصے مثلاً کف، کالر وغیرہ کو رگڑ کر صاف کرنا۔
 - برش سے رگڑنا: فرش اور کچن کی صافی کو برش سے رگڑ کر صاف کرنا۔
 - لکڑی کی تھکی سے کوٹنا: یہ طریقہ تولیے اور چادروں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
2. مٹی لگانا اور نچوڑنا: یہ طریقہ ریشم اور اونی کپڑوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
3. مشین واشنگ: اس طریقے میں محنت کی بچت ہوتی ہے اور مشین کپڑوں کو دھلائی کے لحاظ سے رگڑ پہنچاتی ہے۔

اپنی جانچ کیجیے

1. داغ دھبوں کو دور کرنے کے اقدامات کیا ہیں؟
2. اونی کپڑوں پر گرم پرپس کیوں نہیں کی جاسکتی؟
3. اچھی طرح سوکھے ہوئے کپڑوں کو ہی اسٹور کرنا کیوں ضروری ہے؟